

(حصہ اول)

12 -2 کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- ٹیٹ ملڈرڈ کے مطابق ہوم اکنامکس کی تعریف لکھئے۔
- پروٹین کی ساخت بیان کیجئے۔
- وٹامن کی مختلف اقسام کے نام لکھئے۔
- وٹامن اے کے ذرائع بیان کیجئے۔
- وٹامن سی کے جسم میں کام بیان کیجئے۔
- ہوم اکنامکس اور نفسیات کا کیا تعلق ہے؟
- ہوم اکنامکس کے ذریعے آمدنی کسی طرح بڑھائی جاسکتی ہے؟
- غذا کی تعریف لکھئے۔

(ix) پانی میں حل پذیر وٹامن کے نام لکھئے۔

12 -3 کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- معدنی نمکیات کے جسم میں کام لکھئے۔
- گوشت اور انڈوں کا گروہ کسی غذائی جزو کا اچھا ذریعہ ہے؟
- بنیادی غذائی گروہ کے نام لکھئے۔
- غذا سٹور کرنے کے مختلف طریقے بیان کیجئے۔
- مائیکروویو اوون کے فائدے لکھئے۔
- شیر خوار بچوں کی غذائی ضروریات لکھئے۔
- ایک فرد کے لیے ٹرے لگانے کا طریقہ لکھئے۔
- کھانا کھانے کے چار آداب لکھئے۔
- کھانا پکانے کے چار مقاصد لکھئے۔

12 -4 کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- انسانی نشوونما کے اہم پہلو بیان کیجئے۔
- استدائی بچپن میں بچے کی جسمانی نشوونما کیسے ہوتی ہے؟
- بچے کی نشوونما پر والدین کے تعلقات کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟
- استحصال بالجبر کی تعریف لکھئے۔
- بچوں میں مثبت رویے پیدا کرنے کے طریقے لکھئے۔
- دیر سے خراب ہونے والی غذاؤں کو سٹور کرنے کا طریقہ لکھئے۔
- بچوں کی شخصیت پر ڈے کیئر سٹاف کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- اباحتی والدین کی تعریف لکھئے۔
- رویہ کی تعریف لکھئے۔

حصہ دوم

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات لکھئے۔

- 8 ایک محفوظ بچن کے لیے کن امور کا ہونا ضروری ہے؟ -5
- 8 ہوم اکنامکس کی تعریف لکھئے اور اغراض و مقاصد بیان کیجئے۔ -6
- 8 درمیانی بچپن میں نشوونما بیان کیجئے۔ -7
- 8 چکنائی کی تعریف لکھئے۔ نیز چکنائی کی اقسام اور ذرائع بیان کیجئے۔ -8
- 4.4 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھئے: -9

(ب) استاد کے فرائض

(الف) غیر معاشرتی رویے۔